

PAKISTAN DOMESTIC  
SEASON 2019-20  
14 SEP - 24 APR

CRICKET  
CHAMPIONS  
Inspiring the Nation



## قائد اعظم ٹرافی سیکنڈ ایون ٹورنامنٹ کے نویں راؤنڈ کا پہلا روز مکمل

- بلوچستان کے گلریز صدف اور تیمور علی کی نصف سنچریاں
- سدرن پنجاب کے اسپنر علی عثمان کے 5 شکار
- خیبرپختونخوا کے کامران غلام کی نصف سنچری

لاہور، 14 نومبر 2019ء:

نیا ناظم آباد گراؤنڈ کراچی میں ناردرن نے بلوچستان کے 293 رنز کے جواب میں بغیر کسی نقصان کے 13 رنز بنالیے ہیں۔ ناردرن کے آفاق رحیم 8 اور علی عمران 4 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ اس سے قبل ناردرن نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تو گلریز صدف اور حسیب اعظم نے بلوچستان کو 81 رنز کی اوپننگ شراکت فراہم کی۔ حسیب اعظم 47 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تو اوپنر گلریز صدف اور تیمور علی کے درمیان 103 رنز کی شراکت قائم ہوئی۔ دونوں کھلاڑیوں نے نصف سنچریاں اسکور کیں۔ گلریز صدف 85 اور تیمور علی 63 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ناردرن کی جانب سے رضا الحسن اور رضا حسن نے 3،3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ بلوچستان کی ٹیم نے پہلی اننگز میں مقررہ 83 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 293 رنز بنائے۔

دوسری جانب سدرن پنجاب نے سندھ کے 328 رنز کے جواب میں پہلی اننگز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 30 رنز بنالیے ہیں۔ این بی پی اسپورٹس کمپلیکس کراچی میں جاری میچ کے پہلے روز سندھ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ تو پوری ٹیم 328 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ سندھ کی جانب سے احسان علی اور ولید احمد نے نصف سنچریاں اسکور کیں۔ احسان علی 70 اور ولید احمد 51 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ دونوں کھلاڑیوں نے آٹھویں وکٹ کے لیے 64 رنز جوڑے۔ سدرن پنجاب کے اسپنر علی عثمان نے 5 اور ذوالفقار بابر نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ 328 رنز کے جواب میں سدرن پنجاب کے اوپنر انس مصطفیٰ پہلی اننگز میں 10 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہو کر پویلین واپس لوٹ چکے ہیں۔ مختار احمد 15 اور علی عثمان 1 اسکور سے کھیل کے دوسرے روز کا آغاز کریں گے۔

ادھر اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں خیبرپختونخوا نے سنٹرل پنجاب کے خلاف 3 وکٹوں کے نقصان پر 163 رنز بنالیے ہیں۔ کم روشنی کے باعث میچ کے پہلے روز صرف 41 اوورز کا کھیل ہی ممکن ہو سکا۔ خیبرپختونخوا کے نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو مصدق احمد اور محسن خان پر مشتمل اوپننگ جوڑی نے ٹیم کو 79 رنز کا آغاز فراہم کیا۔ مصدق احمد 45 اور محسن خان 44 رنز بنا کر اوٹ ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر بیٹنگ کے لیے میدان میں اترنے والے کامران غلام نے نصف سنچری اسکور کی۔ وہ 51 کے انفرادی اسکور سے اکبر بادشاہ کے ہمراہ کھیل کے دوسرے روز کا آغاز کریں گے۔ سنٹرل پنجاب کی جانب سے تینوں وکٹیں اسپنر احمد صفی عبداللہ نے حاصل کیں۔

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)